



قتل شبہ عمد کی دیت بھی اتنی ہی سخت ہے جتنی قتل عمد کی ہے تاہم قتل شبہ عمد کے مرتکب کو قتل نہیں کیا جائے گا قتل شبہ عمد یہ ہے کہ شیطان لوگوں کے مابین در آئے اور (اس کے اکساوے میں آ کر) بنا کسی دشمنی اور اسلحہ اٹھائے انجانے میں ہی خون بہے جائے

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فرمایا: ”قتل شبہ عمد کی دیت بھی اتنی ہی سخت ہے جتنی قتل عمد کی ہے تاہم قتل شبہ عمد کے مرتکب کو قتل نہیں کیا جائے گا قتل شبہ عمد یہ ہے کہ شیطان لوگوں کے مابین در آئے اور (اس کے اکساوے میں آ کر) بنا کسی دشمنی اور اسلحہ اٹھائے انجانے میں ہی خون بہے جائے“

[حسن] [اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ قتل شبہ عمد کی دیت بھی اتنی ہی سخت ہے جتنی قتل عمد کی ہے قتل شبہ عمد یہ ہے کہ قاتل کسی ایسی شے سے مارے جس سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے جیسے لٹھی یا اس دیت کی مقدار سو اونٹ ہے جن میں تیس جذعے ہوں گی، جذعے سے مراد وہ اونٹنی ہے جو چار سال کی ہو اور پانچویں سال میں داخل ہو چکی ہو، تیس حقے ہوں گی، حقے سے مراد وہ اونٹنی ہے جو تین سال کی ہو اور چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو اور چالیس خلف یعنی حاملہ اونٹیاں ہوں گی قتل شبہ عمد عموماً بنا کسی دشمنی و عداوت اور بغیر اسلحہ اٹھائے ہوتا ہے شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے بسا اوقات لوگوں کے مابین ہنسی مذاق ہی میں لڑائی کرا دیتا ہے جس سے باہم مار پیٹ اور قتل واقع ہو جاتا ہے جس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا اور یوں لوگوں کے مابین خون ریزی ہو جاتی ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/58215>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

